



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE

For immediate release

August 28, 2025

Increasing Corporatization Through Strategic Partnerships and Enhanced Public Engagement

Islamabad, August 28, 2025 – The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) continues to play a pivotal role in advancing Pakistan's corporate sector by streamlining business registration processes and actively promoting corporatization as a key driver of sustainable economic growth.

In line with its commitment to formalization and inclusive development, the SECP has initiated strategic collaborations with various stakeholders. These include government ministries, regulatory authorities, the State Bank of Pakistan (SBP), land authorities, electricity distribution companies, chambers of commerce, SMEDA, and digital banking platforms such as Easypaisa and JazzCash. Formal communications have been issued to these entities to foster a more conducive environment for business incorporation.

These collaborations aim to promote the growth of the formal sector by encouraging partner organizations to prioritize engagements with companies registered with the SECP. The initiative also emphasizes the immense benefits of corporatization, which include limited liability protection, enhanced credibility, greater scalability, improved access to capital, perpetual succession, strengthened governance, tax efficiencies, simplified ownership transfer, and stronger brand protection.

Furthermore, companies operating under the SECP's purview benefit from regulatory oversight and statutory compliance, which enhances their credibility, reduces procurement-related risks, and ensures the enforceability of contractual obligations. This collective approach supports the development of a more transparent, traceable, and efficient documented economy.

This joint initiative is further bolstered by a comprehensive and targeted public outreach campaign comprising seminars, workshops, and digital media engagement. The campaign aims to engage informal sector entities through the aforementioned stakeholders, raising awareness about the SECP's digital and simplified business registration process. The SECP underscores that such coordinated, cross-sector initiatives are essential for identifying and removing administrative barriers to corporatization while fostering the policy alignment needed to support the formalization of business activities.

اسٹریٹجک شراکت داریوں اور مؤثر عوامی شمولیت کے ذریعے کارپوریٹائزیشن میں اضافہ

اسلام آباد، 28 اگست: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کاروباری رجسٹریشن کے عمل کو آسان بنا کر اور کارپوریٹائزیشن کو پائیدار معاشی ترقی کا اہم ذریعہ قرار دے کر پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

ایس ای سی پی نے مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اپنے عزم برائے رسمی معیشت اور جامع ترقی کے تحت اسٹریٹجک تعاون کا آغاز کیا ہے۔

ان میں سرکاری وزارتیں، ریگولیٹری ادارے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP)، لینڈ اتھارٹیز، بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں، چیمبرز آف کامرس، (SMEDA) اور ڈیجیٹل بینکنگ پلیٹ فارمز جیسے ایزی پیس اور جاز کیش شامل ہیں۔ کاروبار کی رجسٹریشن کے لیے زیادہ سازگار ماحول پیدا کرنے کی غرض سے ان اداروں کو باضابطہ خطوط جاری کیے گئے ہیں۔

یہ تعاون رسمی شعبے کی ترقی کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پارٹنر ادارے ایس ای سی پی کے ساتھ رجسٹرڈ کمپنیوں کو ترجیح دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹائزیشن کے فائدے بھی اجاگر کیے گئے ہیں، جیسے ذمہ داری سے تحفظ، اچھی ساکھ، کاروبار کو بڑھانے کے بہتر مواقع، سرمایہ حاصل کرنے میں آسانی، مستقل حیثیت، بہتر نظم و نسق، ٹیکس میں سہولت، ملکیت کی منتقلی میں آسانی اور برانڈ کا تحفظ۔

مزید یہ کہ ایس ای سی پی کے تحت کام کرنے والی کمپنیوں کو ریگولیٹری نگرانی اور قانونی تقاضوں کی پابندی کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، جو ان کی ساکھ کو بہتر بناتے ہیں، خرید و فروخت سے متعلقہ خدشات کو کم کرتے ہیں اور معاہدوں پر عملدرآمد کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ مشترکہ طریقہ ایک شفاف، قابل نگرانی اور مؤثر معیشت کے فروغ میں مدد دیتا ہے۔

اس مشترکہ اقدام کو مضبوط کرنے کے لیے ایک عوامی آگاہی مہم شروع کی گئی ہے جس میں سیمینارز، ورکشاپس اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس مہم کا مقصد غیر رسمی شعبے کے اداروں کو مذکورہ اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے شامل کرنا اور ایس ای سی پی کے ڈیجیٹل اور آسان کاروباری رجسٹریشن عمل کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ ایس ای سی پی کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات کاروبار کے باضابطہ ہونے میں رکاوٹیں دور کرتے ہیں اور پالیسیوں کو ہم آہنگ بناتے ہیں، جس سے کاروباری سرگرمیوں کو باضابطہ شکل دینے میں آسانی ہوتی ہے۔